

زندگی کے ۶۰، ۶۵ سال لگائیں  
 ۱۸، ۲۰ سال سوتے ہوئے گزر جاتے ہیں  
 ۸، ۱۰ سال کھانے پینے اور حوائج ضروریہ میں صرف ہو جاتے ہیں  
 شعور آتے آتے ۱۵، ۲۰ سال کی عمر ہو جاتی ہے  
 بڑھا پاپویل ہو جائے تو معذوری کی اور یادداشت بلکہ ہوش و حواس کھونے  
 تک نوبت آ جاتی ہے۔

اب جو عمر اچھے حالوں میں ملتی ہے، اس کا ایک حصہ  
 پریشانیوں سے بھرپور گزارتے، دوستوں کے دیے دکھ اٹھاتے، دشمنوں کے  
 وار کا مقابلہ کرتے اور پیاروں کو رخصت کرتے گزر جاتا ہے۔  
 یوں بچتا ہی کیا ہے!

شباب اور قوت کار کہ کتنے لمحات؟  
 دُنیا کا لطف اٹھانے کہ لیے کتنی ساعتیں؟

مکمل لحات اور ساتتیں سرمایہ حیات ہیں  
 لیکن یہ سرمایہ بڑا قیمتی ہوا اہم ہے

آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ اس پر ہوگا  
 جو اس کے ذرا سے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان کر لے  
 اسے آپ کیا کہیں گے؟

(خیر خواہ)